

شورائے رہبری حماس کے ارکان سے ملاقات - 8 / Feb / 2025

شورای رہبری حماس کے ارکان نے آج صبح حضرت آیت اللہ خامنہ‌ای رببر انقلاب اسلامی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے آغاز میں، شورای رہبری حماس کے صدر محمد اسماعیل درویش نے غزہ میں مقاومت کی عظیم فتح پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا: ہم غزہ کی مقاومت کی فتح کے دنوں کا انقلاب اسلامی کی کامیابی کی سالگرہ کے ساتھ تقارن کو نیک فال سمجھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ ہم آہنگی بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ کی آزادی کا پیش خیمہ بنے۔

اسی طرح، حماس کے سیاسی دفتر کے نائب صدر خلیل الحیة نے بھی غزہ کی فتح پر رببر انقلاب کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا: ہم آج اس حال میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ سبھی سربلند ہیں اور یہ عظیم فتح، ہماری اور اسلامی جمہوریہ ایران کی مشترکہ کامیابی ہے۔

حضرت آیت اللہ خامنہ‌ای نے اس ملاقات میں غزہ کے شہداء اور شہید کمانڈروں خصوصاً شہید اسماعیل بنیہ کی یاد کو گرامی قدر قرار دیا اور حماس کے رہنماؤں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے آپ اور غزہ کے عوام کو عزت اور فتح عطا کی اور غزہ کو اس آیت کریمہ کا مصداق بنایا کہ "بسا اوقات ایک چھوٹا گروہ، اللہ کے اذن اور نصرت سے ایک بڑے اور طاقتور گروہ پر غالب آجاتا ہے۔"

رببر انقلاب اسلامی نے تاکید کرتے ہوئے فرمایا: آپ نے صیہونی حکومت اور درحقیقت امریکہ پر غلبہ پایا اور اللہ کے فضل سے انہیں کسی بھی مقصد تک پہنچنے نہیں دیا۔

حضرت آیت اللہ خامنہ‌ای نے ایک سال اور نیم کی مزاحمت میں غزہ کے عوام کی جانب سے برداشت کیے گئے مصائب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ان تمام رنجوں اور قربانیوں کا نتیجہ بالآخر حق کی باطل پر فتح تھا، اور غزہ کے عوام ان تمام افراد کے لیے نمونہ بن گئے ہیں جو مقاومت سے وابستہ ہیں۔

رببر انقلاب اسلامی نے حماس کے مذاکرات کاروں کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے انجام شدہ معاہدے کو ایک عظیم کامیابی قرار دیا اور فرمایا: آج پوری امت مسلمہ اور تمام مقاومت کے حامیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غزہ کے عوام کی تکالیف کو کم کرنے میں مدد کریں۔

حضرت آیت اللہ خامنہ‌ای نے زور دیتے ہوئے فرمایا: ثقافتی سرگرمیوں کے لیے منصوبہ بندی، موجودہ میڈیا مہم کو جاری رکھنا اور غزہ کی تعمیر نو کے ساتھ ساتھ فوجی امور پر بھی توجہ دینا ضروری ہے۔

انہوں نے مزید فرمایا: مقاومت کے کارکنوں اور حماس نے میڈیا اور پروپیگنڈا کے شعبے میں شاندار کارکردگی دکھائی اور یہ طریقہ کار جاری رہنا چاہیے۔

رببر انقلاب اسلامی نے ایمان کو جبہ مقاومت کا اصل ہتھیار اور دشمن کے مقابلے میں غیرمتقارن قوت قرار دیتے ہوئے فرمایا: یہی ایمان ہے جس کی بدولت اسلامی جمہوریہ ایران اور مقاومت کا محاذ دشمنوں کے سامنے کسی بھی طرح کی کمزوری محسوس نہیں کرتا۔

حضرت آیت اللہ خامنہ‌ای نے ایران اور اس کے عوام کے خلاف امریکہ کی حالیہ دھمکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تاکید کی: ایسی دھمکیاں، ہماری قوم، حکام، ملک کے سرگرم افراد اور نوجوانوں کی سوچ پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتیں۔

انہوں نے مزید فرمایا: فلسطین کا دفاع اور فلسطینی عوام کی حمایت ایرانی عوام کے نزدیک کوئی سوال برانگیز معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طے شدہ مسئلہ ہے۔

رببر انقلاب اسلامی نے تاکید کرتے ہوئے کہا: فلسطین کا مسئلہ ہمارے لیے ایک بنیادی معاملہ ہے، اور فلسطین کی فتح ہمارے لیے ایک یقینی امر ہے۔

حضرت آیت اللہ خامنہ‌ای نے فرمایا: آخرکار حتمی کامیابی فلسطینی عوام کو نصیب ہوگی، اور حالات کی

پیچیدگیاں یا نشیب و فراز، اس راستے میں کسی قسم کی تردید یا کمزوری کا باعث نہیں بننے چاہئیں، بلکہ مضبوط ایمان اور امید کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور خدا کی نصرت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ملاقات کے اختتام پر، ریبر انقلاب اسلامی نے حماس کے رہنماؤں سے مخاطب ہو کر فرمایا: ان شاء اللہ وہ دن آئے گا جب آپ سبھی، پوری سربلندی کے ساتھ، مسئلہ قدس کو امت مسلمہ کے حق میں حل کر چکے ہوں گے، اور یہ دن ضرور آئے گا۔

اس ملاقات میں، حماس کے رہنماؤں، جن میں محمد اسماعیل درویش (رئیس شورای رہبری حماس)، خلیل الحیة (نائب رئیس دفتر سیاسی حماس) اور زاہر جبارین (صدر حماس برائے مغربی کنارے) شامل تھے، نے مقاومت کے شہداء، خصوصاً شہید اسماعیل ہنیہ، سید حسن نصراللہ، یحییٰ سنوار اور صالح العاروری کو خراج عقیدت پیش کیا اور غزہ و مغربی کنارے کی تازہ ترین صورتحال، مقاومت کی کامیابیوں اور موجودہ حالات پر ایک تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے ہمیشہ سے جاری اسلامی جمہوریہ ایران اور ایرانی عوام کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔